



باہم سیکھنا

مرحلہ وار طریقہ

سٹی آف ٹورنٹو | ارلی چائلڈ ہوڈ سروسز ٹیم: کمیونٹی لیونگ ٹورنٹو | سرے پلیس سنٹر

مفید پرچہ

جوئے کا فیتہ باندھنے کی ترتیب

یہاں جوئے کا فیتہ باندھنے کی ترتیب کی ایک مثال دی جا رہی ہے:

1. فیتے کو چٹکی سے پکڑیں۔
2. فیتے کو کھینچیں۔
3. جوئے کے متساوی پہلوؤں سے فیتوں کے سروں کو لٹکادیں۔
4. فیتوں کو متعلقہ ہاتھوں میں لیں۔
5. فیتوں کو جوئوں سے اوپر اٹھائیں۔
6. ایک مثلث بنانے کیلئے داہنے فیتہ کو بائیں پر کراس کریں۔
7. بائیں فیتہ کو اپنی طرف لائیں
8. بائیں کو مثلث کے انداز سے کھینچیں۔
9. فیتوں کو ایک دوسرے سے پرے کھینچیں۔
10. لوپ بنانے کے لئے بائیں فیتہ کو موڑیں۔
11. بائیں ہاتھ کی چٹکی سے لوپ کو پکڑیں۔
12. داہنے فیتہ کو انگلیوں کے اوپر اور لوپ کے اطراف لائیں۔
13. سوراخ میں داہنے سے فیتہ کو کھینچیں۔
14. لوپوں کو ایک دوسرے سے الگ کھینچیں۔

نئے کام سیکھنے میں بہت سے بچوں کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی کام کو چھوٹے چھوٹے مرحلے میں بانٹنے سے بچے ایک دفعہ میں ایک مرحلہ سیکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کسی کام یا ہنر کو کتنے مرحلوں میں بانٹیں اس کا انحصار آپکے بچے کی ضرورتوں پر ہے۔

ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کو ویڈیو ترتیب (ترتیب وار تصاویر لگا کر) فراہم کرنا چاہتے ہوں۔ بنیادی طور پر یہ کام کے ہر حصے کا ایک تصویری سلسلہ ہے جو کسی کام کے مراحل دکھاتا ہے جو کہ کسی کام کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ آپ حقیقی تصاویر، خاکے، یا علامتی تصاویر بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ویڈیو بنانے کے لئے۔ جب آپ سلسلہ وار تصاویر استعمال کریں، تو اسے بچے کو آسانی سے نظر آنے والی جگہ پر لگائیں، تصویر کی طرف اشارہ کریں، اور اس عمل کو مکمل کرنے سے پہلے ہر مرحلہ کو اونچی آواز سے پڑھیں۔

آپ تصویروں کا استعمال ترتیبی گیم بنانے کے لئے بھی کر سکتے ہیں۔ بس تصویروں کو پرنٹ کر لیں، ان کو کاٹ لیں، اور اپنے بچوں سے ان کو ترتیب میں رکھنے کی مشق کرائیں۔ ترتیب کی دو نقلیں بنا کر اور صحیح ترتیب میں لگا کر آپ میچنگ گیم بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے بچے سے دوسرے میچ کارڈ کو سیٹ کرائیں۔